



## سوال

(631) سگریٹ نوشی کی امامت

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا سگریٹ نوش کو امامت کا حق ہے جب کہ وہ دوسرے نمازیوں کی نسبت قرات اچھی کرتا ہو؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہاں اس کے لئے امامت کروانا جائز ہے جب کہ غیر فاسقوں میں سے کوئی شخص ایسا موجود نہ ہو جو قرات اچھی کر سکتا اور نازکے احکام جانتا ہو اگر مذکورہ قسم کا شخص کسی مسجد میں مستقل امام ہو تو اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے جب وہ سگریٹ نوشی پر اصرار کرتا ہو اس مسئلہ میں مستقل کمیٹی کی طرف سے پہلے بھی ایک فتویٰ صادر ہو چکا ہے جو کہ حسب ذیل ہے۔ "منسوب" سے مراد وہ حرف جس پر زبر ہو "مرفوع" سے مراد وہ حرف جس پر پیش ہو "مسکون" سے مراد وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو۔

"جو شخص جمعہ و جمعہ کا امام ہو اور وہ سگریٹ نوشی کرتا یا داڑھی منڈاتا یا کسی بھی اور گناہ کے کام میں ملوث ہو تو ضروری ہے کہ اسے نصیحت کی جائے اور اسے گناہ کے ان کاموں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے اگر وہ باز نہ آئے اور اسے معزول کرنا ممکن ہو تو اسے معزول کر دیا جائے بشرطیکہ اس سے کسی فتنہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کی بجائے کسی اور نیک امام کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے تاکہ اس کو نصیحت و عبرت حاصل ہو اور اگر اسے معزول کرنے میں کسی فتنہ کا بھی اندیشہ نہ ہو اور کسی دوسرے پیچھے نماز ادا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر جماعت کے اجرو ثواب کی خاطر اسی کی امامت میں نماز پڑھ لی جائے اور اگر کسی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی صورت میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو فتنہ سے بچنے کے لئے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تاکہ اخف الضررین (بڑی خرابی کے مقابلہ میں چھوٹی خرابی اختیار کرنے) کا ارتکاب کر لیا جائے جیسا کہ حجت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف صالح حجاج بناؤ سلف کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ وہ سب سے بڑا عالم تھا لیکن یہ سلف صالح مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی خاطر اور انہیں فتنہ و اختلاف سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ "وباللہ التوفیق" و صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم (فتوا کمیٹی)

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



## محدث فتویٰ